



HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL



EFU TAKAFUL ACCELERATED SAVINGS PLAN

Building Your Future, Your Way

EFU Takaful Accelerated Savings Plan

This is an investment-linked **Takaful Accelerated Savings Plan** which is a versatile, hybrid solution tailored for customers seeking both **comprehensive coverage** and a **convenient, hassle-free payment** structure. This plan allows customers to secure their financial future with a **one-time payment**, eliminating the need for ongoing contributions.

Designed with simplicity and convenience in mind, the plan ensures that customers remain covered for the full term, offering peace of mind without the burden of recurring payments.

The Takaful Accelerated Savings plan offers **two** key variants to cater to varying customer needs to suit both mass-market and premier customers, this option allows for flexible investment choices, ensuring that customers from different segments can benefit from this comprehensive and convenient solution.

Disclosure of Product:

This is a Family takaful product which has two distinct elements i.e., **Protection and Investment**. The **Investment Component** is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).

Free Look Period:

If you decide to cancel your membership within fourteen days of receiving the membership document, you are entitled for an amount equivalent to contribution as a settlement benefit less any expenses incurred by EFU Life - WTO in connection with our medical or clinical examinations.

Plan Objective:

The objective of this plan is to collect the current and future contributions of this plan in one go to purchase units for the funds based on the participant's risk and investment objectives, hence saving the participant from the hassle of regular payments. Moreover, the lump sum contributions collected will also earn greater return in comparison to the contributions collected on yearly basis.

Eligible Age	18 – 65 years
Minimum and Maximum Plan Term	- Variant A: Payment Term 5 years, Benefit Term 10 years - Variant B: Payment Term 10 years, Benefit Term 15 years
Minimum Contribution	- Masses: PKR 50,000 – 249,999 - Premier Customers: PKR 250,000 and above
Mode of Contribution	One time Contribution payment paid by the client
Fund Acceleration Contribution	Minimum FAC 50,000
Sum Assured	Annual Contribution x Cover Multiple

Opportunities for Growth:

Every Contribution paid towards the plan will be invested in one of the internal investment funds of EFU Life. It is completely your decision to choose the internal fund based on your investment objectives

You can select from the following unit linked funds mentioned below:
All available funds are categorized with their risk profiling as per the investment criteria.

Funds		
EFU Takaful Growth Fund	EFU Takaful Conservative Fund*	EFU Takaful Aggressive Fund
Fund Categorization: Balanced	Fund Categorization: Income Fund	Fund Categorization: Aggressive
Risk Profile: Medium	Risk Profile: Low	Risk Profile: High
A unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah-Compliant investments. The objective of the fund is to maximize capital growth by investing in a portfolio spread across a wide range of investments such as Islamic mutual funds, approved equities, term deposits in Islamic Banks, and Sukuk Bonds	EFU Takaful Conservative Fund has a conservative investment allocation strategy and low risk. This is a unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah-compliant government securities, non-equity Shariah compliant mutual funds, Shariah-compliant short-term deposits, and cash in Islamic banks or Islamic windows of conventional banks. The fund aims to provide stable investment returns with minimal risk and is suitable in times of the volatile stock market	A unit-linked Participants' Investment Fund (PIF) comprising Shariah-Compliant investments, aimed at maximizing capital growth by using investments with an aggressive market outlook.

Multiple Fund Option:


Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Fund mix can be selected in the multiples of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50
***EFU Takaful Conservative Fund to be selected by default.**

What is Takaful?

Takaful is a Shariah compliant way of safeguarding yourself and your family against future financial losses. A Takaful product assists participants to share their risk on the basis of cooperation, brotherhood, mutuality and solidarity for the common good.

How does the Takaful Membership operate?

EFU Life's Takaful model is founded on the Wakalah-Waqf principle. Individuals in the community come together for a common purpose and contribute into a Waqf Fund operated by a Takaful Operator to protect themselves against future financial losses. The following pictorial representation summarizes how your Takaful membership will operate with EFU Life - WTO:



What is Surplus Sharing?

Takaful offers a unique feature of Surplus Sharing to the Participants in addition to risk mitigation benefits. By contributing Tabarru (donation) into the Participant's Takaful Fund (PTF), the participant may be entitled to a share of possible surplus funds. At the end of each year, EFU Life -Window Takaful Operations will determine the surplus in the PTF based on the method approved by the Shariah Advisor and Appointed Actuary.

What are the benefits of Surplus Sharing?

A part of the surplus may be distributed back to the participant in the form of Bonus Units through additional unit allocation in the Participant's Investment Account (PIA). These Bonus Units will enhance the Cash Value of your Takaful plan.

Waqf Donation:

Waqf Donation, which depends on the Takaful cover and age of the Participant, will be transferred from Basic Plan Contribution into Participants Takaful Fund (PTF).

Benefits:

Plan Variant Selection:

This Takaful Accelerated Savings Plan offers 2 variants with different payment terms and benefit terms as explained below. Both these variants offer an ease of payment structure, clients will be paying one time in a lumpsum amount and will be free of the renewal payment structure. The payment structures are explained below.

Variant A: Payment term 5, Benefit Term 10

Variant B: Payment term 10, Benefit Term 15

The Initial Minimum contribution for both variants is as follows:

For Masses: PKR 50,000 to 249,999

For Premier customers: PKR 250,000 and above

Masses



Premier Customers



The participant will be paying the following as per the example below according to the as above-mentioned Payment Terms:

Variant A: $\text{PKR } 50,000 \times 5 = 250,000$

$\text{PKR } 250,000 \times 5 = 1,250,000$

Variant B: $\text{PKR } 50,000 \times 10 = 500,000$

$\text{PKR } 250,000 \times 10 = 2,500,000$

PRIMUS:

Another exclusive feature for our customers is PRIMUS. PRIMUS is the first of its kind concept in the Takaful industry. With PRIMUS you will experience a whole new world of exclusive benefits especially designed to cater to your needs.

PRIMUS Loyalty Program:

PRIMUS clients can now enjoy an unparalleled advantage offered through PRIMUS Loyalty Program.

- **Food:** (Restaurants, Cafes, Bakers, Juice and Ice cream parlors)
- **Life Style:** (Clothing, Jewelry, footwear, Make-up and Home Décor)
- **Leisure:** (Airport Lounge, Travel & Tours, Cinema, Hotels, Amusement and Recreational centers)
- **Wellness:** (Hospitals, Labs, Pharmacies, Spas and Fitness centers)
- **Takaful Coverage:** (Health, Travel and Home)



These offers are a few taps away on your EFU Life PlanIT mobile app. So what are you waiting for! To download the app, scan the QR code.

Maturity Benefit:

The Participant (covered person) is entitled to the total cash value at the maturity of the plan.

Death Benefit:

The unfortunate demise of the Participant (covered person) allows the nominated beneficiaries to receive the death benefit as given:

On death, the benefit payable is equal to:

Sum of Sum Covered of the Main plan **and** the Cash Value of the units applicable to the regular basic plan contribution.

Plus

The Cash Value of units allocated against FAC payments – if any

Optional Benefits:

Below Optional Benefits are offered in the plan.

• Takaful Accidental Death Benefit:*

This benefit provides an additional lump sum benefit on accidental death of the participant.

• Takaful Accidental Death and Disability Benefit Plus:*

In case of accidental death or disability (including Permanent and total disability) of the participant, this rider provides an additional lump sum benefit.

Unit Allocation:

The proportion of basic plan allocated to investment is shown below:

Allocation structure available for Regular customers with minimum Contribution PKR 50,000

PKR 50,000 to PKR 249,999	Variant A		Variant B	
Membership Year	Contribution Allocation	Allocation Charges	Contribution Allocation	Allocation Charges
Year 1	65%	35%	65%	35%
Year 2	80%	20%	80%	20%
Year 3	85%	15%	85%	15%
Year 4 – 5	100%	0%	100%	0%
Year 6 & onwards	-	-	105%	0%

Allocation structure available for Premier customers with minimum Contribution PKR 250,000

PKR 250,000 and above	Variant A		Variant B	
Membership Year	Contribution Allocation	Allocation Charges	Contribution Allocation	Allocation Charges
Year 1	80%	20%	80%	20%
Year 2	85%	15%	85%	15%
Year 3	95%	5%	95%	5%
Year 4 – 5	100%	0%	100%	0%
Year 6 & onwards	-	-	105%	0%

*An allocation charge will be deducted from the Paid Contribution every year as per the above table and the remainder will be allocated to the account value

Maturity Bonus:

Maturity bonus allocation will be applicable at maturity on percentage of average annual basic Contribution paid till maturity as mentioned below:

Maturity bonus allocations for masses at minimum PKR 50,000 in Variant B:

Membership Year	Allocation
Year 15	20%

Maturity bonus allocations for Premier customers at minimum PKR 250,000 in Variant B:

Membership Year	Allocation
Year 15	30%

Fund Acceleration Contribution:

If you have surplus cash available at any point of time during the plan term, it can be invested in the plan to enhance your cash value. These additional payments in the plan are called Fund Acceleration Contribution payments. You can make these payments at any time while the membership is in force. The minimum FAC payment is Rs. 50,000.

100% of FAC payments are allocated to purchase units in the selected fund.

Complete and Partial Surrender:

Main Plan Cash Value:

- If the membership is fully surrendered before the second Contribution has been consumed/allocated in main plan, An additional Wakalat ul Istismar fee equal to allocated portion of first year Contribution will be deducted from the Total Cash value of the membership. Partial Surrender cannot be done from the main plan cash value before the second Contribution has been consumed.

- After the 2nd contribution has been consumed/allocated in main plan, cash value can be withdrawn (Full or Partial). Partial surrender is allowed subject to main plan contribution amount remaining in the fund.

FAC Cash Value

- The FAC cash value can be withdrawn (full or partial) at any point in time during the term of the membership.

Indexation:

This option gives you the security and peace of mind of knowing that the benefits provided by your plan will be automatically updated in line with inflation every year. Once you select this option, the membership will increase every year by 5% of the prior year's membership.

Claim:

In case of an unfortunate event, you may file your claim intimation through any Bank Alfalah Branch walk in, visiting the EFU Head Office or by visiting any of the EFU branches in the country. For a swift speedy process you may also call us at our call center (021-111-338-111) or simply visit our website, fill in the intimation form and email it to us at cod@efulife.com. Thereafter, you will be contacted for next steps.

Charges:

Applicable charges are as follows:

Charges	Rate/PKR
Administration Charges	For 50,000 to 249,999: PKR. 960/- per annum For 250,000 and above: PKR. 1,200/- per annum
Investment Management Charges	1.5% of the fund value per annum
Bid/Offer Spread	5%
Allocation Charges	As per the Above "Unit Allocation" Table
Fund Switching Fee	PKR 500
Surrender Processing Fee	PKR 500
Additional Wakalat-ul Istismar fee	An additional Wakalat-ul-Istismar fee equivalent to 50% of the total cash value will be charged in case of surrender before payment of two full-year contributions.

Disclaimer:

- This product is underwritten by EFU Life - Window Takaful Operations. It is not guaranteed or covered by Bank Alfalah or its affiliates and is not a product of Bank Alfalah. Hence EFU Life - Window Takaful Operations is responsible for all underwriting risk.
- Bank Alfalah is just a promoter/ distributor and corporate takaful agent of this product to its valued customers.
- Growth in the value of your contribution will depends on the performance of the selected Fund in which the contributions are invested.
- All investments made in the selected Fund are subject to market risks. The investment risk of the selected fund will be borne by the participant.
- Arrangements of all Takaful Claims, charges and payments relating to the Takaful Policies shall be the sole and exclusive responsibility of EFU Life - Window Takaful Operations.
- The past performance of the fund is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither EFU Life - Window Takaful Operations nor Bank Alfalah will incur any liability for the same.
- A personalized illustration of benefits will be provided to you by our consultant. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various Terms and Conditions; you are required to fully understand the illustration and other terms and conditions of the plan.
- Service Charges and taxes will be applicable as per the Bank's schedule of charge and taxation laws as stipulated by relevant authorities.

MUFTI MUHAMMAD IBRAHIM ESSA

Graduate from Jamiah Darul Uloom Karachi, Pakistan
Shariah Advisor – Islamic Finance and Takaful/Retakaful

المفتي إبراهيم عيسى

خريج الجامعة دارالعلوم كراتشي
المشیر الشرعی للا مور
المالية الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE

SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE

UNDER RULE 26(1)(e) OF TAKAFUL RULES, 2012


FOR EFU LIFE ASSURANCE LTD – WINDOW TAKAFUL OPERATIONS

In the capacity of Shariah Advisor of EFU Life Assurance Ltd – Window Takaful Operations, I certify that I have reviewed the structure of EFU Takaful Accelerated Savings Plan which is based on the Wakalah-Waqf takaful model. I have also examined all relevant processes and documents including the Participants Membership Document.

Based on Shariah rulings and to the best of my knowledge and belief, the EFU Takaful Accelerated Savings Plan by Bank Alfalah of EFU Life Assurance Ltd – Window Takaful Operations, investment policy of the Takaful fund, relevant documents and processes are all Shariah compliant.

In my opinion, it is permissible from the Shariah point of view to obtain membership in this product and benefit from it.

Dated: 23 October, 2024



Muhammad Ibrahim Essa
Shariah Advisor

EFU Life Assurance Limited Window Takaful Operations



EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan
Tel: (021) 111-338-111 Email: csd@efulife.com



HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL



ای ایف یو تکافل ایکسلر ییڈ سیونگز پلان

اپنے طریقے سے اپنا مستقبل تعمیر کریں

ای ایف یو کافل ایکسلریٹڈ سیونگنر پلان

یونٹ لنڈ کافل ایکسلریٹڈ سیونگنر پلان ایک متنوع، ہا بہر دخل ہے جو ان صارفین کے لیے تیار کیا گیا ہے جو جامع کوریج اور آسان یکمشت ادائیگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ منصوبہ صارفین کو ایک بار کی ادائیگی کے ساتھ اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بنانے کی اجازت دیتا ہے، جس سے مسلسل ادائیگی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔

یہ پلان سادگی اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا، یہ منصوبہ یقینی بناتا ہے کہ صارفین پوری مدت کے لیے محفوظ رہیں، بغیر کسی بار بار کی ادائیگی کے بوجھ کے، سکون حاصل کرتے ہیں۔

یہ کافل ایکسلریٹڈ سیونگنر پلان مختلف ضروریات کے لیے دو اہم اقسام میں دستیاب ہے تاکہ عام صارفین اور پریمیر صارفین دونوں کی ضروریات پوری کی جاسکیں، اور یہ صارفین کو فلیکسیبل سرمایہ کاری کے انتخاب کی سہولت دیتا ہے۔

پروڈکٹ کا اظہار:

یہ ایک ایسا فیملی کافل پروڈکٹ ہے جس کے دو نمایاں عناصر ہیں یعنی، تحفظ اور سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری کا جزیونٹ سے منسلک فنڈ (فنڈز) کے تحت اساسی سرمایہ جات کی کارکردگی سے مربوط ہے۔

غور و فکر کا دورانیہ (فری لک پیریڈ):

یہ پالیسی کے اجراء سے لکر 14 دن تک کا دورانیہ ہے جس میں شریک کافل پالیسی کی شرائط و ضوابط پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اگر آپ غور و فکر کی مدت میں ہی اپنی پالیسی منسوخ کرنا چاہیں تو آپ کو اپنی اہم ڈی کی متعلقہ شق کے مطابق بطور قاعدے کے کنٹریبوشن کے مساوی رقم ادا کی جائے گی۔

پلان کے مقاصد:

اس پلان کا مقصد کلائنٹ کے خطرات اور سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد پر فنڈ کے یونٹس خریدنے کیلئے اس پلان کی موجودہ اور مستقبل کے کنٹریبوشن کو اکٹھا کرتا ہے۔ چنانچہ پارٹیسپنٹ کو باقاعدہ ادائیگیوں کی پریشانی سے بچاتا ہے۔ مزید یہ کہ ایک مشت جمع شدہ کنٹریبوشن سالانہ کی بنیادوں پر جمع کئے جانے والے تمام انفرادی کنٹریبوشن کے مقابلے میں زیادہ منافع حاصل کریگا۔

اہم تفصیلات:

عمر کی اہلیت	18 سے 65 سال
کم از کم پلان کی مدت	وارینٹ A: ادائیگی کی مدت 5، کوریج کی مدت 10 وارینٹ B: ادائیگی کی مدت 10، کوریج کی مدت 15
کم از کم کنٹریبوشن	عام صارفین کے لیے: 50,000 PKR سے 249,999 پریمیر صارفین کے لیے: 250,000 PKR اور اس سے زیادہ
کنٹریبوشن کا طریقہ کار	کلائنٹ کی جانب سے ادا کیا گیا ایک بار کا یکمشت کنٹریبوشن
اشافی اختیاری کنٹریبوشن	کم از کم 50,000 روپے
کور ملٹپل	سالانہ کنٹریبوشن (خریب) پروڈکشن ملٹپل

نشوونما کے لئے مواقع:

اس پلان میں ادا کیا جانے والا ہر کثیر بیوشن ای ایف یولائف کے منتخب کردہ فنڈز میں سرمایہ کاری کیلئے لگایا جائیگا۔ یہ مکمل طور پر آپ کا فیصلہ ہوگا کہ اپنے سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد پر فنڈ کا انتخاب کریں۔

آپ درج ذیل یونٹ سے منسلک فنڈز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں:

تمام فنڈز کی رسک پروفائیلنگ ان میں کی جانے والی سرمایہ کاری کے تحت کی گئی ہے

فنڈز		
ای ایف یونٹ کا فل گروتھ فنڈ	ای ایف یونٹ کا فل کنزرویٹو فنڈ*	ای ایف یونٹ کا فل ایگریکچل ایگریسوفنڈ
فنڈ کی قسم: متوازن	فنڈ کی قسم: آگم فنڈ	فنڈ کی قسم: ایگریسو
رسک پروفائل: درمیانی	رسک پروفائل: کم	رسک پروفائل: زیادہ
یہ یونٹ سے منسلک ایک شرکاء کا فل سرمایہ فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاریوں پر مشتمل ہے۔ فنڈ کا مقصد ایک پورٹ فولیو کے پھیلاؤ میں سرمایہ کاریوں کی ایک وسیع رینج میں جیسے کہ اسلامک میچل فنڈز، منظور شدہ مالی ایکویٹیز، اسلامی بینکوں میں غرض ذات اور صلوک بانڈز جیسی اکیٹوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے حاصل شدہ سرمائے کو زیادہ فروغ دینا ہے۔	ای ایف یونٹ کا فل کنزرویٹو سرمایہ کاری کی تخصیص کی ایک مختلط حکمت عملی رکھتا ہے اور اس میں کم خطرہ شامل ہوتا ہے۔ یہ شریعت کے مطابق حکومتی سیکورٹیز، شریعت کے مطابق غیر بانڈوں میچل فنڈز، شریعت کے مطابق قلیل المدت ڈیپازٹس، اسلامی بینکوں میں یا سرمایہ بینکوں کی اسلامک ونڈز میں دی جانے والی خدمات میں نقد پر مشتمل یونٹ سے منسلک شرکاء کا فل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے۔	یہ یونٹ سے منسلک شرکاء کا فل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاری پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ کی متوقع تیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمائے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔

متعدد فنڈز کی سہولت (ملٹیل فنڈز آپشن):

اس اختیار کے تحت، آپ پلان کے یونٹ سے منسلک دو فنڈز کے مرکب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فنڈ کے مرکب کو 10 فیصد کے ملٹیلز میں منتخب کیا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فنڈز کو 10/20، 30/70، 40/60 یا 50/50 میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

* ای ایف یونٹ کا فل کنزرویٹو خود کار طور پر منتخب کیا جائے گا۔

تکافل کیا ہے؟

تکافل ماہرین شریعت کی زیر نگرانی تیار کردہ باہمی تعاون کے اصولوں پر مبنی تحفظ اور سرمایہ کاری کا طریقہ کار ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو اور آپ کے پیاروں کو مستقبل میں آنے والی مالی پریشانیوں ہر مسائل سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تکافل پروڈکٹس کے ذریعے باہمی تعاون اور بھائی چارے کی بنیادوں پر تکافل پلان کے شرکاء کو غیر متوقع جانی اور مالی نقصانات کی صورت میں مالی تعاون فراہم کیا جاتا ہے۔

تکافل ممبر شپ کیسے کام کرتی ہے؟

ای ایف یولائف کا تکافل ماڈل وکالتہ وقف کے اصولوں پر مبنی ہے جس میں معاشرے کے کچھ افراد ایک اجتماعی مقصد کے لئے یکجا ہوتے ہیں اور تکافل آپریٹر کے زیر انتظام وقف فنڈ میں پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو مستقبل میں ہونے والے مالی نقصانات سے محفوظ کر سکیں۔ درج تصویر کی خاکہ اس چیز کا خلاصہ بیان کرتا ہے کہ آپ کی تکافل رکنیت ای ایف یولائف ونڈ تکافل آپریشنز کے ساتھ کس طرح کام کرے گی:

وارینٹ B: ادائیگی کی مدت 10، کوریج کی مدت 15

دونوں واریئنٹ کے لیے ابتدائی کم از کم کنٹریبیوشن درج ذیل ہے:

• عام صارفین کے لیے: 50,000PKR سے 249,999

• پرنسپل صارفین کے لیے: 250,000PKR اور اس سے زیادہ

ممبر شپ ردرج ذیل کے مطابق ادا کی گئی کرے گا (example) جیسا کہ اوپر بیان کردہ ادائیگی کی

شرائط کے مطابق:

واریئنٹ A:

$$\text{PKR } 50,000 \times 5 = 250,000$$

$$\text{PKR } 250,000 \times 5 = 1,250,000$$

واریئنٹ B:

$$\text{PKR } 50,000 \times 10 = 500,000$$

$$\text{PKR } 250,000 \times 10 = 2,500,000$$

پرائس:

ہمارے صارفین کے لئے ایک اور منفرد خصوصیت پرائس ہے۔ پرائس تکفل بیمہ حیات انڈسٹری میں اپنی نوعیت کا پہلا تصور ہے۔ پرائس سے آپ ان منفرد فوائد کی ایک مکمل نئی دنیا کا تجربہ حاصل کریں گے جو خاص طور پر آپ کی ضروریات پوری کرنے کیلئے تشکیل دیا گیا ہے۔

پرائس لائٹنی پروگرام:

پرائس کے صارفین اب پرائس لائٹنی پروگرام کے ذریعے پیش کئے گئے ایک انوکھے موقع کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔

• کھانے: (ریسٹورانٹس، کیفے، بیکرز، جوس اور آئس کریم پارلرز)

• طرز زندگی: (کپڑے، زیورات، پاپوش، میک اپ اور گھریلو آرائش)

• تفریح: (ایئر پورٹ لاؤنج، سفر اور سیاحتی سفر، سنیما، ہوٹلز، تفریحی مراکز)

• سلامتی: (ہسپتال، لیبارٹریاں، فارمیسی، اسپا اور درستی صحت کے مراکز)

• تکفل کوریج: (صحت، سفر اور گھر)

یہ پیشکشیں آپ کے ای ایف یو لائف پلان آئی ٹی موبائل ایپ سے چند دستک دور ہیں۔ توکس کا انتظار ہے!

ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے، کیو آر (فوری جواب) کوڈ اسکین کیجئے۔

مچھوڑی بینیفٹ:

پلان کی مچھوڑی پر شریک تکفل کو تمام نقد مالیت (کیش ویلیو) ادا کی جائے گی۔

فوائد بصورت فوتگی (ڈیٹھ بینیفٹ):

شریک تکفل کی ناگہانی وفات کی صورت میں مستفیدان (نامزد بینیفیشری) کو مندرجہ ذیل فوائد بصورت فوتگی میں حاصل ہوگا

☆ بنیادی پلان کا زریعہ تکفل یا پائوش کی نقد مالیت (کیش ویلیو)، (ان میں سے جو بھی زیادہ ہو)



ضمنی فوائد (اختیاری بینیفٹ):

بکفل ایکسڈنٹل ڈیٹھ بینیفٹ: * اگر وفات کسی حادثے کے باعث پیش آتی ہے تو یہ فائدہ ایک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔
ایکسڈنٹل ڈیٹھ اینڈ ڈس ایبلٹی بینیفٹ: * حادثاتی وفات یا معذوری کی صورت میں یہ رائڈ رائیک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔
فراہم کرتا ہے۔

ایکسڈنٹل ڈیٹھ اینڈ ڈس ایبلٹی بینیفٹ پلس: * حادثاتی وفات یا (مستقل اور مکمل) معذوری کی صورت میں جو آپ کو مستقل طور پر معذور کر دے
یہ رائڈ رائیک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔

یونٹ کی ایلو کیشن:

بنیادی پلان میں مختص کئے جانے والے یونٹس کا تناسب جو سرمایہ کاری کے لئے مقرر کیا گیا ہے، درج ذیل ٹیبل میں موجود ہے:
عام صارفین کے لیے کم از کم 50,000PKR کنٹریبوشن پر ایلو کیشن کا طریقہ

وارینٹ B		وارینٹ A		PKR 50,000 PKR 249,999
یونٹ ایلو کیشن %	ایلو کیشن کی چارجز *	ایلو کیشن کی چارجز *	یونٹ ایلو کیشن %	پالیسی سال
35 فیصد	65 فیصد	35 فیصد	65 فیصد	1 سال
20 فیصد	80 فیصد	20 فیصد	80 فیصد	2 سال
15 فیصد	85 فیصد	15 فیصد	85 فیصد	3 سال
0 فیصد	100 فیصد	0 فیصد	100 فیصد	4 سے 5 سال
0 فیصد	105 فیصد	-	-	6 سال اور اس کے بعد

پریمیکر صارفین کے لیے کم از کم 50,000PKR پر یکم پر ایلو کیشن کا طریقہ

وارینٹ B		وارینٹ A		250,000PKR اور اس سے زیادہ
یونٹ ایلو کیشن %	ایلو کیشن کی چارجز *	ایلو کیشن کی چارجز *	یونٹ ایلو کیشن %	پالیسی سال
20 فیصد	80 فیصد	20 فیصد	80 فیصد	1 سال
15 فیصد	85 فیصد	15 فیصد	85 فیصد	2 سال
5 فیصد	95 فیصد	5 فیصد	95 فیصد	3 سال
0 فیصد	100 فیصد	0 فیصد	100 فیصد	4 سے 5 سال
0 فیصد	105 فیصد	-	-	6 سال اور اس کے بعد

فنڈ ایکسٹریکشن کنٹریبوشن ادائیگیوں کا 100 فیصد منتخب شدہ فنڈ میں یونٹس کی خریداری کے لئے مختص کیا جاتا ہے۔

* اوپر درج ٹیبل کے مطابق ہر سال ادا کئے گئے کنٹریبوشن میں سے تخصیص کی فیس منہا کی جائے گی اور بقایا رقم اکاؤنٹ ویلو کو مختص کی جائے گی

میچورٹی بونس:

میچورٹی بونس پلان کی میچورٹی پر لاگو ہوگا اور میچورٹی تک ادا کیے گئے سالانہ بنیادی کنٹریبوشن کے فیصد پڑنی ہوگا، جیسا کہ نیچے ذکر کیا گیا ہے۔

میچورٹی بونس ایلو کیشن عام صارفین کے لئے وارینٹ B میں کم از کم 50,000PKR کنٹریبوشن پر

ایلو کیشن	سال
20 فیصد	15 سال

میچورٹی بونس ایلویشن پر یکم ہزار فیصد کے لئے واریئنٹ B میں کم از کم 250,000PKR کٹریوشن پر

ایلویشن	سال
30 فیصد	15 سال

اضافی اختیاری کٹریوشن (فنڈ ایکسلریشن کٹریوشن):

اگر آپ کے پاس پلان کی مدت کے دوران کسی بھی وقت اضافی نقد رقم موجود ہو تو اپنی نقد اقدار (کیش ویلیو) کو بڑھانے کے لئے آپ اس کو پلان میں سرمایہ کاری کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان اضافی ادائیگیوں کو فنڈ ایکسلریشن کٹریوشن کہتے ہیں۔ آپ یہ ادائیگیاں پالیسی کے نافذ العمل ہوتے ہوئے کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ کم از کم فنڈ ایکسلریشن کٹریوشن (ایف اے پی) 50,000 روپے فی ادائیگی ہے۔ فنڈ ایکسلریشن کٹریوشن ادائیگیوں کا 100 فیصد منتخب شدہ فنڈ میں بونس کی خریداری کے لئے مختص کیا جاتا ہے۔

مکمل اور جزوی دستبرداری:

اگر پالیسی کو مکمل طور پر دوسرے کٹریوشن کے استعمال / مختص ہونے سے پہلے ختم کر دیا جائے تو پہلے سال کے کٹریوشن کے تفویض کردہ حصے کے برابر 50% چارج پالیسی کی مجموعی نقد قیمت سے کٹ جائے گا۔ دوسرے کٹریوشن کی ادائیگی سے پہلے مرکزی منصوبے کی نقد قیمت سے جزوی دستبرداری نہیں کی جاسکتی۔

دوسرے کٹریوشن کی استعمال / تفویض کے بعد، نقد قیمت نکالی جاسکتی ہے (مکمل یا جزوی)۔ جزوی سوئپ دینا مرکزی منصوبے کی کٹریوشن رقم کے باقی رہنے کی صورت میں جائز ہے۔ FAP نقد قیمت کو پالیسی کی مدت کے دوران کسی بھی وقت مکمل یا جزوی طور پر نکالا جاسکتا ہے۔

افراط زر (انڈیکیشن):

یہ انتخاب آپ کو ذہنی سکون اور تحفظ مہیا کرتا ہے کہ پلان میں دئے گئے فوائد سالانہ افراط زر (انڈیکیشن) کے مطابق خود بہ خود بڑھ جائیں گے۔ اس اختیار کے تحت آپ کا کٹریوشن پچھلے سال کے کٹریوشن سے 5 فیصد بڑھے گا۔ مزید یہ کہ تمام کٹریوشن 5 فیصد سے بڑھا کر یکم شدت وصول کئے جائیں گے۔

کلیم:

کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ اپنے دعویٰ (کلیم) کی اطلاع بینک الفلاح بینک کی کسی بھی شاخ میں جا کر، ای ایف یو ہیڈ آفس آکر یا ملک بھر میں ای ایف یو کی کسی بھی شاخ میں جا کر دے سکتے ہیں۔ فوری عمل درآمد کیلئے آپ ہمارے کال سینٹر (111-338-111) پر 111-EFU-021 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر موجود اطلاع فارم بھریئے اور ہمیں cod@efulife.com پر ای میل کر دیجئے۔ بعد ازاں، اگلے مراحل کے بارے میں آگاہ کرنے کیلئے آپ سے رابطہ کیا جائیگا۔

اخراجات (چارجز):

چارجز	ریٹ/ پاکستان روپے میں
انتظامی اخراجات (ایڈمنسٹریشن چارج)	50,000 سے 249,999 کے لیے 960 روپے سالانہ 250,000 اور اس سے زیادہ کے لیے 1,200 روپے سالانہ
پڈ/آفر (بولی/پیشکش) سپرڈ	مختص شدہ بنیادی اور اضافی فنڈ کنٹریبیوٹن 56 فیصد
سرمایہ کاری انتظامات اخراجات (انویسمنٹ منیجمنٹ چارج)	فنڈ قدر کا 1.5 فیصد سالانہ
فنڈ تبدیل کرنے کی فیس	500 روپے
دستبرداری عمل درآمد فیس	500 روپے
اضافی وکالت الاستثمار فیس چارج	دو سال کے مکمل کنٹریبیوٹن ادا کردہ جانے سے پہلے دستبرداری کی صورت میں کل نقد قدر کے 50 فیصد کے مساوی اضافی وکالت الاستثمار فیس چارج کیا جائے گا۔

تکافل ڈونیشن (وقف ڈونیشن):

- شریک تکافل کی عمر اور سہ ماہیٹ رسک کے حساب سے ایکچو ریل کی طرف سے مقرر کردہ رقم جو کہ شریک تکافل فنڈ میں ہر سال جمع کی جائیگی۔
- البتہ جب کیش ویلوسم کورڈ (ذریعہ تحفظ) سے بڑھ جائے تو تکافل ڈونیشن کی مددیں کوئی رقم منہا نہیں کی جائے گی۔
- وقف فنڈ سے وکالت خرچ:
- تکافل عطیے کا 40 فیصد

انتباہ:

- یہ پلان ای ایف یولائف اشورنس لمیٹڈ کا پیش کردہ پروڈکٹ ہے۔ یہ پلان بینک الفلاح یا اس سے ملحق کسی ادارے سے ضمانت کردہ یا بیمہ شدہ نہیں ہے اور نہ ہی بینک الفلاح کی پروڈکٹ ہے۔ ای ایف یولائف اشورنس لمیٹڈ شریک تکافل صارف/ صارفین اور مستفید/ مستفیدان (بینفٹری/ بینفٹریز) کے کلیمز (دعووں) کا ذمہ دار ہوگی۔
- بینک الفلاح ای ایف یولائف اشورنس لمیٹڈ کی طرف سے صرف ایک کارپوریٹ تکافل ایجنٹ/ تقسیم کار کی حیثیت کام کر رہا ہے اور نہ ہی شریک تکافل صارف/ صارفین اور مستفید/ مستفیدان (بینفٹری/ بینفٹریز) یا کسی بھی تیسرے فریق کی طرف سے ذمہ دار ہوگا۔
- سرمایہ کاری میں نفع اور نقصان کی ذمہ داری شریک تکافل کی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پالیسی کی میچورٹی یا دستبرداری نقد قدر (کیش ویلوس) پیشگی اندازے سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ منتخب شدہ فنڈ میں کی گئی تمام سرمایہ کاریاں مارکیٹ میں نقصان کی صورت حال پر منحصر کرتی ہیں۔ سرمایہ کاری کی کارکردگی کی صورت میں نقصان شریک تکافل کی ذمہ داری ہوگا۔
- ضروری نہیں کہ فنڈ کی ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کے لئے رہنمائی کا باعث ہو۔ کسی قسم کا پیشگی اندازہ ضروری نہیں کہ مستقبل کی ترجہائی کرے یا فنڈز کی ممکنہ کارکردگی کو بیان کرے اور فنڈز کی اچھی یا بری کارکردگی کی ذمہ داری ای ایف یولائف اور بینک الفلاح بینک پر عائد نہیں ہوتی۔
- ہمارا سیلز کا نمائندہ آپ کو فوائد کی شخصی مثال پیش کرے گا۔ برائے مہربانی دیگر شرائط و ضوابط کو تفصیلاً سمجھنے کیلئے مثال میں بیان کی گئی باتوں کو بغور پڑھیں۔
- سروس اخراجات اور دیگر ٹیکسیز بینک کے شیڈول آف چارجز اور متعلقہ حکم سے مشروط ٹیکس قوانین کے مطابق ہونگے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرعیہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ

ای ایف یولائف ایٹورنس لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز

ای ایف یولائف ایٹورنس لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کے شرعی مشیر ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے ای ایف یو تکافل ایکسپلیرٹ سیونگز پلان کا جائزہ لیا ہے جو کہ بینک الفلاح کے توصل سے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ تکافل پلان وقف اور وکالت کے اصولوں پر مبنی ہے۔

نیز میں نے اس مذکورہ اسکیم کے دستاویزی کاغذات اور متعلقہ دیگر امور بشمول سرمایہ کاری وغیرہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور بحمد اللہ میں نے ان تمام امور کو شریعت کے مطابق پایا ہے۔ لہذا میری رائے میں ای ایف یولائف ایٹورنس لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کی مذکورہ اسکیم کی رکنیت حاصل کرنا اور اس سے فوائد حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

تاریخ: ۳۰ جون ۲۰۲۲



محمد ابراہیم عیسیٰ

مفتی محمد ابراہیم عیسیٰ
شرعی مشیر

ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یو ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th، اسٹریٹ، فیرون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔

فون: 021 111 338 111 ای میل: csd@efulife.com